



۸

## بازار میں ایک قمیص (A Shirt in the Market)

یہ سبق ایک قمیص کی کہانی کہتا ہے۔ اس کی شروعات کپاس (Cotton) کی پیداوار سے لے کر قمیص کی فروخت پر ختم ہوتی ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ بازاروں کا ایک سلسلہ کپاس پیدا کرنے والے کو بازار میں قمیص کے خریدار سے جوڑتا ہے۔ اس کڑی میں ہر قدم پر خرید و فروخت کا عمل ہوتا ہے۔ کیا اس سے سب کو یہ سامنا نافع ہوتا ہے یا کچھ لوگ دوسروں سے زیادہ نفع کرتے ہیں؟ ہم اس کا پتہ لگائیں گے۔

کیا سوپنا کو کپاس کی صحیح قیمت مل سکی؟  
سوپنا کو تاجر نے قیمت کم کیوں ادا کی؟

آپ کے خیال میں بڑے کسان اپنا کپاس کہاں پہنچیں گے۔ ان کی صورت حال سوپنا کے حال سے کس طرح مختلف ہے؟

کپاس پیدا کرنے والا ایک کسان سوپنا کرنول (آندرہ پردیش) میں ایک معمولی کسان ہے۔ وہ اپنی چھوٹی سی کھیتی کی زمین پر کپاس اگاتی ہے۔ کپاس کے پودوں کے بنوے (Bolls) پک چکے ہیں اور کچھ پھٹ بھی چکے ہیں۔ سوپنا کپاس توڑنے میں مشغول ہے۔ بنوے جس میں روئی ہوتی ہے، سارے ایک ساتھ نہیں پھوٹتے۔ اس لیے کپاس کی کٹائی میں کئی دن صرف ہوتے ہیں۔

سارا کپاس اکٹھا کر لینے کے بعد سوپنا اور اس کا شوہر کرنول کی کپاس بازار میں بیچنے کے بجائے فصل کو مقامی تاجروں کے پاس لے جاتے ہیں۔ فصل کے موسم کی شروعات میں سوپنا نے ایک تاجر سے بہت اوپنی سود کی شرح پر 2,500/- روپے ادھار لیے تاکہ فصل اگانے کے لیے نیچ، کھاد، اور کیڑے مارنے والی دوا خرید سکے۔ اُس وقت مقامی تاجر نے سوپنا کو ایک دوسرا شرط پر راضی کیا تھا۔ تاجر نے سوپنا سے اپنا تمام کپاس اس کو ہی بیچنے کا وعدہ لیا۔


کپاس کی کاشت کاری میں لاگت زیادہ آتی ہے جیسے کہ کھاد اور کیڑے مارنے والی دوائیں اور کسانوں کو ان چیزوں کی خاطر بھاری خرچ جھیلانا پڑتا ہے۔ زیادہ تر چھوٹے کسانوں کو یہ اخراجات پورے کرنے کے لیے قرض کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ تاجر کے احاطے میں اس کے دو ملازم کپاس کے بورے تو لتے ہیں۔ 1,500 روپے فی کونٹل کپاس کے حساب سے اس کے 6,000 روپے ہوتے۔ تاجر نے 3000 روپے قرض اور سود کی رقم گھٹا کر سوپنا کو 3,000 ادا کر دیے۔

سوپنا: صرف 3,000 روپے!

تاجر: کپاس سستی بک رہی ہے، بازار میں اس بار کپاس بہت زیادہ ہے۔

سوپنا: میں نے اس کپاس کے لیے چار مہینے سخت محنت کی ہے۔ تم خود دیکھ سکتے ہو کہ اس بار کپاس کتنی صاف اور اچھی ہے۔ میں نے اس سے کہیں بہتر رقم پانے کی امید کی تھی۔

تاجر: اتنا۔ میں تمہیں اچھی قیمت دے رہا ہوں۔ دوسرا تاجر تو اتنا بھی نہیں دے رہے ہیں۔ اگر تمہیں بقین نہ ہو تو تم پورے کرنول بازار میں اس کی جانچ کر سکتی ہو۔



سوپنا: غصہ مت ہو۔ میں تم پر شک کیسے کر سکتی ہوں؟ میں نے تو صرف یہ امید کی تھی کہ ہم کپاس بیچ کرتا نکالیں گے کہ کچھ مہینوں کے لیے کافی ہو جائے۔

حالانکہ سوپنا جانتی ہے کہ کپاس کم سے کم 1,800 روپے فی کونٹل بکے گی۔ پھر بھی اس نے بحث نہیں کی۔ تاجر اس گاؤں کا ایک طاقت ور آدمی ہے۔ اور دوسرے کسانوں کو اس پر مخصر ہونا پڑتا ہے نہ صرف کھیتی کے لیے، قرض پانے کے لیے بلکہ بہت سی دوسری ہنگامی ضرورتوں کے لیے بھی۔ جیسے کہ بیماری و بچوں کی اسکول کی فیس وغیرہ اور سال بھر میں ایسا بھی آتا ہے جب کسانوں کے لیے کوئی کام اور آمدنی نہیں ہوتی۔ اس وقت پیسے قرض لینا زندگی کے لیے واحد ذریعہ ہوتا ہے۔

سوپنا کی کمائی کپاس کی پیداوار سے بمشکل تھوڑی سی ہی زیادہ تھی جتنا کہ وہ ایک اجرتی مزدور کی حیثیت سے کما سکتی تھی۔

### إروڈ کا کپڑا بازار (The Cloth Market of Erode)

تمل ناؤ میں إروڈ کا سارہ روزہ کپڑا بازار دنیا کے سب سے بڑے کپڑا بازاروں میں سے ایک ہے۔ متعدد اقسام کے کپڑے اس بازار میں بیچے جاتے ہیں۔ اطراف کے گاؤں میں بنکروں کے ہاتھوں بننے ہوئے کپڑے بھی فروخت کے لیے اس بازار میں لائے جاتے ہیں۔ بازار کے چاروں طرف کپڑوں کے تھوک تاجریوں کے دفاتر ہیں۔ جو کہ یہ کپڑے خریدتے ہیں جنوبی ہندوستان کے بہت سے دوسرے قصبوں سے بھی تاجر یہاں آ کر کپڑے خریدتے ہیں۔

بازار کے دن آپ بنکروں کو تھوک تاجریوں کے آرڈر پر بنائے گئے کپڑے بھی لاتے ہوئے دیکھیں گے۔ یہ تھوک تاجر کپڑوں کے صنعت کاروں اور برآمد کاروں کو آرڈر پر پورے ملک میں کپڑا مہیا کراتے ہیں۔ یہ لوگ سوت خریدتے ہیں اور جس طرح کا کپڑا تیار کروانا ہواں ہدایت کے ساتھ بنکروں کو سوت دے دیتے ہیں۔ درج ذیل مثال میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کس طرح کیا جاتا ہے۔





1۔ بازار میں یہ ایک تھوک تاجر کی ڈکان ہے۔ کئی سالوں سے ان تاجروں نے پورے ملک کے کپڑوں کی فرم سے وسیع تعلقات قائم کر رکھے ہیں۔ جہاں سے انہیں کام کا آرڈر ملتا ہے۔ یہ تاجر دوسروں سے سوت خریدتے ہیں۔

2۔ آس پاس کے گاؤں میں رہنے والے بنکر تاجر کے ذریعے مہیا کرائے گئے سوت کو گھر لے جاتے ہیں۔ جہاں اپنے گھروں کے پاس ہی چھپروں میں انہوں نے لوم قائم کر رکھے ہیں۔ ایسے ہی ایک گھر میں پاور لوم کی ایک تصویر ہے۔ بنکر اور ان کا خاندان خاصاً وقت ان لوموں میں کام کرتے ہوئے گزار دیتے ہیں۔ زیادہ تر بنائی کی اکائی میں 2 سے 8 پاور لوم ہوتے ہیں۔ جس میں سوت کو بن کر کپڑا بنایا جاتا ہے۔ مختلف اقسام کی سازیاں اور تولیب، شرٹنگ، عورتوں کے لباس اور بستر کی چادریں وغیرہ ان میں تیار کی جاتی ہیں۔

3۔ تیار شدہ کپڑے پھر وہ تاجروں کو واپس کر دیتے ہیں۔ یہاں یہ قصبوں میں تھوک تاجروں کے پاس لے جانے کے لیے تیار کرتے ہوئے دیکھے جاسکتے ہیں۔ یہ تاجر دی گئے سوت کا حساب رکھتے ہیں اور اُس کو بُن کر کپڑے تیار کرنے پر ان کو رقم ادا کرتے ہیں۔

4۔ حسب ذیل لوگ ایروڈ کپڑا بازار میں کیا کر رہے ہیں۔ تھوک تاجر و بنکر برآمد کار (Exporter) (5) بنکر تھوک تاجروں پر کس لحاظ سے منحصر ہتے ہیں۔



**براہ راست نظام۔ بنکر کپڑا گھر پر تیار کرتے ہیں  
(Putting-out system weavers producing cloth at home)**

تھوک تاجر کپڑوں کے ملے ہوئے آرڈر کی بنا پر بنکروں میں کام بانٹ دیتے ہیں۔ بنکر تاجر سے سوت لے کر اسے کپڑا تیار کر کے دیتے ہیں۔ بنکروں کے لیے بظاہر اس انتظام سے دوفائدے ہیں۔ بنکروں کو سوت خریدنے کے لیے پیسے نہیں خرچ کرنے پڑتے۔ اسی کے ساتھ وہ تیار شدہ کپڑوں کو بینچنے کی پریشانی سے بھی نجات جاتے ہیں۔ بنکر کام کے آغاز سے ہی جانتے ہیں کہ انھیں کس طرح کا کپڑا تیار کرنا ہے اور کتنی بنائی کرنی ہے۔

تاہم بنکروں کا تھوک تاجروں پر دونوں باتوں (خام مال اور بازار) کے لیے انحصار کا مطلب ہے کہ تاجر بہت با انتیار ہیں۔ ان کو کیا تیار کر دانا ہے اس کا حکم دیتے ہیں اور کپڑوں کی بنائی کی قیمت بھی بہت کم ادا کرتے ہیں۔ بنکر یہ کبھی نہیں جان پاتے کہ وہ کپڑا

کس کے لیے تیار کر رہے ہیں۔ یا کس قیمت پر اس کو فروخت کیا جائے گا۔ کپڑا بازار کے یہ تھوک تاجر گارمنٹ فیکٹریوں (Garment Factories) کو کپڑا بیچتے ہیں۔ اس طرح سے بازار تھوک تاجروں کے مفاد میں زیادہ کام کرتا ہے۔

بنکر، کر گھایا (Loom) خریدنے کے لیے اپنی تمام بچت یا زیادہ شرح سود (Interest Rate) پر قرض لے کر رقم لگا دیتے ہیں۔ ایک Loom کی قیمت 20,000 (بیس ہزار روپے) ہوتی ہے۔ اس لیے ایک چھوٹے بنکر کو دو Loom کے لیے 40,000 (چالیس ہزار روپے) خرچ کرنے پڑتے ہیں۔ ان Loomوں پر اکیلے کام نہیں کیا جاسکتا۔ بنکر اور گھر کے کسی دوسرے فرد کو کپڑا تیار کرنے کے لیے ایک دن میں 12 گھنٹے تک کام کرنا پڑتا ہے۔ اس مکمل کام کے لیے وہ لگ بھگ 3,500 (سائز ہے تین ہزار روپے) ماہانہ کماتے ہیں۔

تحوک تاجر اور بنکروں کے بیچ کا یہ انتظام براہ راست نظام (Putting-out System) کی ایک مثال ہے جس کے ذریعے تھوک تاجر خام مال مہیا کر کے تیار شدہ

(6) اگر بنکر خود ہی سوت خرید کر کپڑا تیار کر کے فروخت کریں تو انہیں لگ بھگ تین گنازیادہ منافع حاصل ہو گا۔ آپ کے خیال میں کیا یہ ممکن ہے؟ کیسے؟ بحث کیجیے۔

کیا اسی طرح کا براہ راست نظام ("Puttingout") آپ پاپڑ، مسالا اور بیڈی تیار کرنے میں بھی پاتے ہیں؟ اپنے علاقے میں اس کے بارے میں جانکاری حاصل کیجیے اور کلاس میں بحث کیجیے۔

ممکن ہے آپ نے اپنے علاقے میں کوآپریٹو کے بارے میں سنا ہو۔ یہ دودھ، دھان اور اشیائے خوردنی میں بھی ہو سکتا ہے۔ پتہ کیجیے کہ ان کا نظم کس کے نفع کے لیے کیا گیا ہے؟

### بنکر کوآپریٹو (Weaver's Cooperative)

براہ راست نظام (Putting system) کے تحت ہم نے دیکھا کہ تھوک تاجر بنکروں کو بہت کم اجرت ادا کرتے ہیں۔ بنکر کوآپریٹو (Weaver's Cooperative) تاجروں پر بنکروں کا انحصار کرنے اور زیادہ آمدنی کرنے کا ایک راستہ ہے۔ اس میں یکساں مفاد کے لوگ اکٹھے ہو کر ایک دوسرے کے نفع کے لیے کام کرتے ہیں۔ بنکر کوآپریٹو میں بنکر ایک گروپ بنا کر کچھ کام ایک ساتھ کرتے ہیں۔ وہ لوگ سوت تاجروں (Yarn dealers) سے سوت حاصل کرتے ہیں اور بنکروں کے درمیان بانٹ لیتے ہیں۔ یہ کوآپریٹو خرید و فروخت بھی کرتے ہیں۔ اس طرح تھوک تاجروں کا حصہ گھٹ جاتا ہے اور بنکر کپڑے کی بنائی پر صحیح قیمت پاتے ہیں۔

بعض اوقات حکومت ان کوآپریٹو (Cooperatives) سے مناسب قیمت پر کپڑا خرید کر ان کی مدد کرتی ہے۔ مثال کے طور پر تمل ناڈو سرکار صوبے میں بچوں کے لیے مفت اسکول یونیفارم پروگرام چلاتی ہے۔ حکومت اس پروگرام کے لیے کپڑا اپریلوںم بنکر کوآپریٹو سے خریدتی ہے اور اسی طرح حکومت ہینڈ لوم بنکر کوآپریٹو (Handloom Weaver's Cooperatives) سے کپڑا خرید کر ذخیرہ کر کے پیچتی ہے۔ جسے کوآپریٹس (Co-optex) کہا جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کا اپنے قبے میں ایسے کسی ذخیرے کے پاس سے اتفاقاً گزر ہوا ہو۔





مال حاصل کرتا ہے۔ ہندوستان کے زیادہ تر علاقوں میں بنائی صنعت (Weaving industry) میں یہ نظام رائج ہے۔

### دہلی کے نزدیک تیار شدہ ملبوسات برآمد کرنے کا کارخانہ (Garment Export Factory near Delhi)

غیر ملکی خریداروں کے گارمنٹ ایکسپورٹروں سے کیا  
مطالبے ہیں۔ اور یہ لوگ ان کے مطالبوں کو کیوں مان  
لیتے ہیں؟

گارمنٹ ایکسپورٹ (لباس برآمد کرنے والے) غیر ملکی  
خریداروں کے ذریعے طے کی گئی شرائط کو کس طرح پورا  
کرتے ہیں؟

ایوڈ کے تھوک تاجر بکروں کے ذریعہ تیار کیا گیا سوتی کپڑا دہلی کے نزدیک ایک گارمنٹ برآمد کرنے والے کارخانے کو مہیا کراتے ہیں۔ یہ کارخانہ کپڑے سے قمیص تیار کرے گا۔ پھر قمیص غیر ملکی خریداروں کو برآمد کی جائے گی۔ غیر ملکی خریداروں میں امریکہ اور یورپ کے کاروباری لوگ ہیں جو کہ بہت ساری دُکانیں چلاتے ہیں۔ یہ دُکانیں سختی کے ساتھ اپنی شرائط پر کام کرتی ہیں۔ وہ قمیص مہیا کرانے والے سے کم سے کم قیمت میں سودا طے کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ مصنوعات کا اعلیٰ معیار طے کرتے ہیں اور وقت پر سامان کی سپردگی چاہتے ہیں۔ کسی کمی یا سپردگی میں دریی کے ساتھ سختی سے نپٹا جاتا ہے۔ اس لیے ان طاقت ور خریداروں کی شرائط پوری کرنے کے لیے برآمد کاریا ایکسپورٹ پوری کوشش کرتے ہیں۔

خریداروں کی طرف سے اتنے دباؤ کا سامنا کرنے کے لیے یہ کارخانے بدلتے میں قیمتیں گھٹا دیتے ہیں۔ یہ مزدوروں سے زیادہ سے زیادہ کام، کم سے کم تنخواہ دے کر کرواتے ہیں۔ اس طریقے سے ایکسپورٹر (برآمدکار) اپنا منافع بڑھاتے ہیں اور غیر ملکی خریداروں کو کم قیمت پر لباس بھی مہیا کرتے ہیں۔

امپکس گارمنٹ فیکٹری میں 70 ملازمین کام کرتے ہیں۔ اُن میں زیادہ تر عورتیں ہیں ان میں سے زیادہ تر ملازمین کو عارضی طور پر نوکری پر رکھا جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جب کبھی بھی مالک یہ محسوس کرتا ہے کہ اب ملازم کی ضرورت نہیں ہے تو ملازم سے کام چھوڑنے کو کہا جاسکتا ہے۔ ملازمین کی تنخواہیں ان کی مہارت کے لحاظ سے طے کی گئی ہیں۔ ملازمین میں سب سے زیادہ تنخواہ پانے والے درزی یہ ہے جو کہ لگ بھگ 3,000 روپے ماہانہ کرتے ہیں۔ عورتوں کو مدگار کی حیثیت سے دھاگا کاٹنے، بُن لگانے، آئرن کرنے اور پیلینگ کے لیے رکھا جاتا ہے۔ ان کاموں کی تنخواہیں سب سے کم ہیں۔

| ملازموں کی ماہانہ تنخواہیں     |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| سلامی.....                     | 3000 روپے           |
| آئرن کرنا.....                 | 1.50 روپے (فی کپڑا) |
| جانچ کرنا.....                 | 2000 روپے           |
| دھاگے کاٹنا اور بُن لگانا..... | 1,500 روپے          |

### ریاست ہائے متحده میں ایک قیمت (The Shirt in the United States)

ریاست ہائے متحده امریکہ میں ایک بڑی کپڑوں کی ڈکان پر بہت سی قیصوں کی نمائش لگی ہوئی ہے۔ اور ان کی قیمت \$26 (26 ڈالر) رکھی گئی ہے۔ یعنی ہر قیص کی قیمت 26 امریکی ڈالر لگ بھگ 1,800 ہندوستانی روپے ہے۔


کنارے پر دکھائی گئی قیص کی تصویر دیکھیے اور نیچے کے خانے بھریے۔

ایک تاجر نے دہلی میں گارمنٹ ایکسپورٹر (گارمنٹ برآمد کرنے والے) سے ..... روپے کی قیص خریدی۔ پھر اس نے میڈیا میں ایڈورٹائز کے لیے ..... روپے خرچ کیے

آپ کے خیال میں امپکس گارمنٹ فیکٹری میں زیادہ تر عورتوں کو نوکری پر کیوں رکھا جاتا ہے؟ بحث کیجیے۔

آپ کے خیال میں ملازمین کی مناسب تنخواہ کیا ہوئی چاہیے؟ اس بات کے لیے وزیر کو ایک خط لکھیں۔

کاروباری لوگوں کے ذریعے کمائے گئے منافع اور لاگت کے طور پر مختلف قیتوں کو نیچے قیص میں دکھایا گیا ہے کیا کیا چیزیں اس کی قیمت خرید میں شامل ہیں؟ نیچے خاکہ دیکھ کر بتائیے۔



گارمنٹ فیکٹری کے ملازم کی گارمنٹ ایکسپورٹر کی اور غیر ملکی سوداگر کی فی قیص آمد نہیں کا مقابلہ کیجیے۔ آپ کیا نتیجہ نکالتے ہیں؟

سوداگر کے بازار میں بہت اچھا منافع کمانے کی کیا وجہات ہیں؟

آپ اپیڈورٹائزگ پر سبق پڑھ چکے ہیں۔ غیر ملکی گارمنٹ ایکسپورٹر کا منافع 300 روپے فی قیص اپیڈورٹائزگ پر کیوں خرچ کرتا ہے۔ بحث کیجیے۔

اور ایک قیص کے حساب سے دُکان میں رکھنے، نمائش کرنے اور تمام دوسرے اخراجات ملا کر اس نے ..... روپے خرچ کیے۔ اس طرح اس شخص کو ایک قیص کی کل قیمت ہوئی 600 روپے۔ جب کہ وہ اسی قیص کو 1,200 روپے میں فروخت کرتا ہے۔ ایک قیص پر اس کا منافع ہوا ..... روپے۔ اگر وہ زیادہ قیص بیچنے کے قابل ہے تو اس کا منافع بہت زیادہ ہو گا۔

گارمنٹ ایکسپورٹر (گارمنٹ برآمد کرنے والے) نے ایک قیص 200 روپے میں فروخت کی۔ کپڑے اور دوسرے خام مال کی اس کی لگت 70 روپے۔ ملازمین کی فی قیص اجرت پر اس نے 15 روپے خرچ کیے۔ اس کو اپنے دفتر کے رکھ رکھاؤ کی فی قیص قیمت آئی 15 روپے۔ کیا آپ گارمنٹ ایکسپورٹر کا فی قیص منافع معلوم کر سکتے ہیں۔

بازار میں فائدہ کمانے والے کون لوگ ہیں؟

(Who are the gainers in the market?)

بازاروں کا سلسلہ کپاس پیدا کرنے والے کو سبز بازار کے خریدار سے جوڑتا ہے۔ اس سلسلے میں خرید و فروخت کا عمل ہر قدم پر ہوتا ہے۔ آئینے ذرا دھراتے ہیں کہ وہ کون لوگ تھے جو اس خرید و فروخت کے عمل میں شامل تھے۔ کیا سمجھی نے زیادہ منافع کمایا بازار میں کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے اچھا منافع کمایا۔ اور کچھ ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے اس خرید و فروخت سے اتنا زیادہ نہ کمایا۔ ان کی سخت محنت کے باوجود انہوں نے تھوڑا منافع کمایا۔ یہ پچھے دکھائے گئے جدول میں کیا آپ ان کو صحیح جگہ پر رکھ سکتے ہیں۔

بازار اور مساوات (Market Equality)

غیر ملکی سوداگر نے بازار میں بڑا منافع کمایا۔ اس کے مقابلے میں گارمنٹ ایکسپورٹر نے معقول منافع کمایا۔ دوسری طرف فیکٹری کے مزدوروں کی کمائی بمشکل ان کی روزمرہ ضروریات زندگی پوری کرنے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ اسی طرح ہم نے دیکھا کہ گاؤں کے چھوٹے کسان اور ایروڈ کے بنکرنے کئی کئی گھنٹے سخت محنت کی۔ لیکن انھیں ان کی پیداوار کے مطابق واجب قیمت نہیں ملی۔ تھوک تاجر اور کئی تاجر ان کے درمیان میں آتے ہیں۔ بنکروں کے مقابلے میں تاجروں نے زیادہ کمایا ہے۔ مگر ایکسپورٹر کے مقابلے میں اب بھی بہت کم ہے۔ اس طرح بازار میں کوئی بھی برابر منافع نہیں کمارہ ہا ہے۔ جمہوریت بھی بازار

وہ لوگ جنہوں نے بازار میں اچھا منافع کمایا

-1

-2

-3

وہ لوگ جنہوں نے بازار میں بہت زیادہ منافع نہیں کمایا

-1

-2


-3



میں واجب معاوضہ کے متعلق بات کرتی ہے۔ خواہ وہ کانتا ہو یا سوپنا۔ اگر یہ خاندان کافی پیسہ نہیں کرتے تو کس طرح وہ خود کو اور وہ کے مساوی سوچ سکتے ہیں۔

ایک طرف تو بازار لوگوں کو کام کے اور جوانوں نے اگایا تیار کیا ہے، اس کو بیچنے کے قابل بنانے کے موقع فراہم کرتا ہے۔ یہ کپاس بیچتے ہوئے کسان یا کپڑا تیار کرتے ہوئے بنکر بھی ہو سکتے ہیں۔ وہیں دوسرا طرف عموماً یہ امیر یا با اختیار لوگ ہی بازار سے زیادہ سے زیادہ منافع حاصل کرتے ہیں۔ یہ لوگ ہیں جن کے پاس دولت ہے اور کارخانوں، بڑی دکانوں اور بڑی بڑی زمینیوں کے مالک ہیں۔ غریبوں کو مختلف چیزوں کے لیے امیر اور با اختیار لوگوں پر محصر ہونا پڑتا ہے۔ ان کو قرضوں کے لیے محصر ہونا پڑتا ہے (جیسا کہ سوپنا۔ ایک چھوٹا کسان کے معاملے میں) خام مال اور اپنے سامان کو فروخت کرنے کے لیے (براہ راست نظام میں مکمل اور اکثر و پیشتر نوکریوں کے لیے کارمنٹ فیکٹری کے ملازمین) اس انحصار کی بدولت بازار میں غریبوں کا استھان کیا جاتا ہے۔ ان پر قابو پانے کے طریقے فراہم ہیں۔ جیسے کہ سامان پیدا کرنے والوں کا کو آپریٹو (Co-operative) بنالینا اور سختی سے قانون کے نفاذ کو یقینی بنانا۔ آخری سبق میں ہم پڑھیں گے کہ کس طرح تواندی پر ایسے ہی ایک ماہی گیروں کے لیے کوآپریٹو (Fishworker's Co-operative) کی شروعات کی گئی۔

کیا آپ جانتے ہیں کہ جو سلے سلاٹی کپڑے آپ خریدتے ہیں۔ اس میں بہت سارے لوگوں کو کام کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔



پاکدار ترقیاتی ہدف

[www.in.undp.org](http://www.in.undp.org)

## مشق

- 1۔ سوپنا تاجر کو کپاس بیجتی ہے
- 2۔ گاہک ان قمیصوں کو سپر بازار میں خریدتا ہے۔
- 3۔ تاجر کپاس کو کپاس بیلنے کی مل Ginning (Mill) کو بیچ دیتا ہے۔
- 4۔ گارمنٹ ایکسپورٹر قمیص تیار کرنے کے لیے تھوک تاجر کپڑا خریدتے ہیں۔
- 5۔ سوت کے تاجر یا تھوک تاجر بنکروں کو سوت مہیا کراتے ہیں۔
- 6۔ ایکسپورٹر امریکہ کے کاروباری شخص کو قمیص فروخت کرتا ہے۔
- 7۔ دھاگا کاتنے کی مل (Spinning mill) روئی خرید کر سوت کے تاجروں کو سوت بیجتی ہے۔
- 8۔ بنکر بدلے میں کپڑا دیتے ہیں۔
- 9۔ کپاس بیلنے کی مل کپاس کی صفائی کر کے اس کی گانٹھی تیار کرتی ہے۔

1۔ سوپنا کو کس بات نے کرنوں کی کپاس بازار میں کپاس بیجنے کے بجائے ایک تاجر کو بیجنے پر مجبور کیا؟

2۔ گارمنٹ ایکسپورٹر فیکٹری (گارمنٹ برآمد کارخانہ) میں نوکریوں کی اور ملازمین کی تجوہ کے حالات بیان کیجیے۔ آپ کے خیال میں کیا ملازمین کے ساتھ مناسب برداشت ہو رہا ہے؟

3۔ کسی عام چیز کے بارے میں سوچیے جو ہم استعمال کرتے ہیں جیسے کہ چینی، چائے، دودھ، قلم، کاغذ، پنسل وغیرہ۔ یہ کن بازار کی کڑیوں سے ہوتے ہوئے ہم تک پہنچتا ہے؟ بحث کیجیے۔ کیا آپ ان لوگوں کے بارے میں سوچ سکتے ہیں جو کہ پیداوار اور تجارت میں مدد کرتے ہیں۔

4۔ سامنے دیے گئے بیانات کو ترتیب وار لکھیے اور اس کے لحاظ سے کپاس کے بنولوں میں صحیح نمبر بھریئے۔ پہلے دو آپ کے لیے کر کے دکھائے گئے ہیں۔



## فرهنگ

**کپاس بیلنے کی مل (Ginning Mill):** وہ کارخانہ جہاں کپاس کے بنولوں سے ٹیچ کو الگ کیا جاتا ہے۔ پھر کپاس کو دبا کر گانٹھیں بنائی جاتی ہیں تاکہ سوت کاٹ کر دھاگا بنانے کے لیے بھیجا جاسکے۔

**ایکسپورٹر (Exporter):** وہ شخص جو کہ ملک سے باہر سماں پہنچتا ہے۔ اسے برآمد کاربھی کہتے ہیں۔

**منافع (Profit):** وہ رقم جو کمائی میں سے تمام اخراجات کو گھٹادینے کے بعد پچتی ہے۔ اگر اخراجات کمائی سے زیادہ ہیں تو یہ نقصان کہلاتے گا۔